

برائے فوری اجراء

برامپٹن میں موسم گرما کا لطف!

برامپٹن، آن (23 جون 2022) – سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی میں دلکش تفریحی مواقع سے بھرپور موسم گرما پیش کرنے کے لیے پرجوش ہے۔

شہر کی بہت سی تفریحی سہولیات میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ تشریف لے جائیں اور تمام موسم گرما کے دوران نئی دلچسپاں دریافت کریں، کھیلیں کودیں اور پانی سے خوب موج مستی کریں۔ موسم کی وجہ سے بندش، نظام الاوقات اور رجسٹریشن کی تفصیلات سے متعلق آپریشنل اسٹیٹس اپ ڈیٹ سمیت تمام معلومات کے لیے www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

پروفیسرز لیک اور ایڈورڈو پارک آؤٹ ڈور پول

پروفیسرز لیک 28 جون سے کھل رہی ہے، موسم کی صورت حال کے مطابق۔ جھیل، ساحل سمندر اور بیچ والی بال جیسی بیرونی سہولیات تک رسائی حاصل کریں۔

ایڈورڈو پارک آؤٹ ڈور پول 30 جون سے کھل رہا ہے، موسم کی صورت حال کے مطابق۔ پارک میں بھی، کھیل کے دو میدانوں، پانچ پکنک ایریاز اور کھیلنے کے لیے کافی جگہ سے لطف اٹھائیں۔

رجسٹریشن کی معلومات اور سٹی کے آؤٹ ڈور پول اور ساحل سمندر کی سہولیات سے متعلق اضافی تفصیلات کے لیے www.brampton.ca/summerfun پر جائیں۔

سپلیش پیڈز اور ویڈنگ پولز سٹی کے سپلیش پیڈز اور ویڈنگ پول اب روزانہ کھلے ہوتے ہیں۔ خراب موسم کی وجہ سے بندش ہو سکتی ہے۔ آپریشنل اسٹیٹس کی اپ ڈیٹس کے لیے براہ کرم www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

سمر کیمپس

ہفتہ وار سمر کیمپ 4 جولائی سے 26 اگست تک +6 سال کی عمر کے شرکاء کے لیے دستیاب ہیں۔ شمولیتی کیمپ بھی دستیاب ہیں۔ مختلف اندرونی اور بیرونی تفریحی کھیلوں اور سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca/registerforprograms ملاحظہ کریں۔

کھلے آسمان کے نیچے موویز

1 ستمبر تک چنگواکوسی پارک، ماؤنٹ پلیزنٹ اسکوائر اور گارڈن اسکوائر میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو مفت، خاندان دوستانہ فلموں کی بیرونی نمائش میں شرکت کریں۔ اپنے اسنیکس، کمبل اور لان کی کرسیاں اپنے ساتھ لائیں۔ اس سال، موویز انڈر دی اسٹارز کو میپل لاج فارمز، نو فریلز برامپٹن اور ٹیلز نے دل کھول کر اسپانسر کیا ہے۔ مکمل شیڈول www.brampton.ca/summerfun پر دیکھیں۔

پیل ویلج گالف کورس

پیل ویلج گالف کورس، سٹی آف برامپٹن کی گالف کے لیے سب سے بڑی منزل پر ٹی ٹائم بک کریں۔ ہر سطح کے کھلاڑیوں کے لیے نو سوراخوں کا تجربہ کریں اور کورس کی خوبصورتی سے لطف اٹھائیں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse ملاحظہ کریں۔

پارکس اور تفریحی راستے

سٹی آف برامپٹن بہت سے پارکس اور قدرتی ورثے والی زمینوں کا گھر ہے، جیسے وادیاں اور ووڈلینڈز جن میں پیدل چلنے کے لیے تفریحی راستے بنائے گئے ہیں۔ برامپٹن کی خوبصورت بیرونی جگہوں پر چلیں، دوڑیں، موٹر سائیکل چلائیں اور کھیلیں کودیں۔ برامپٹن

کے پارکس میں آؤٹ ڈور ٹینس اور پیکل بال کورٹس اور کھیلوں کے بیرونی میدانوں کے ساتھ صحت مند اور متحرک رہیں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

پارک میں فٹنیس

اس موسم گرما میں برامپٹن پارکس میں سٹی کی جانب سے مہیا کی گئی مفت آؤٹ ڈور ورزش کے مواقع سے استفادہ حاصل کریں۔ کارڈیو اور زومبا، کم اثر والی ورزش اور یوگا، توازن اور تندرستی اور مزید بہت کچھ کے لیے رجسٹر کریں۔ شرکاء کو ایک تولیہ، چٹائی اور پانی اپنے ساتھ لائے، ورزش کا آرام دہ لباس پہننے اور موسم کے مطابق لباس پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

موسم گرما میں تیراکی کے مفت مواقع

4 جولائی سے 1 ستمبر تک شہر بھر کے تفریحی مراکز میں مفت اینڈور عوامی تیراکی کا لطف اٹھائیں۔ تیراکی کی مفت سہولیات ٹم ہارٹنز (Tim Hortons) کی فراخدلانہ سپانسرشپ سے پیش کی جا رہی ہیں۔ رجسٹریشن لازمی ہے۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"موسم گرما سر پر پہنچ آیا ہے اور برامپٹن میں موسم گرما کا خوب لطف اٹھایا جا سکتا ہے! 2022 کے موسم گرما میں چہل قدمی، تیراکی، پانی سے موج مستی کرنے اور پورے خاندان کے لیے سٹی کی جانب سے موسم گرما کی مختلف اقسام کی سہولیات اور پروگراموں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند اور متحرک زندگی گزاریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن خوبصورت پارکوں اور تفریحی پگڈنڈیوں، تفریحی سرگرمیوں اور ہر ایک کے لیے موسم گرما کے دلکش پروگراموں سے بھرا ہوا ہے۔ www.brampton.ca/summerfun پر سٹی کی موسم گرما کی پیشکشوں کو دریافت کریں اور ہمارے عظیم شہر برامپٹن میں اپنے موسم گرما سے لطف اندوز کی منصوبہ بندی کریں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ برامپٹن میں موسم گرما میں تفریح کے بہترین مواقع پیدا کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے وقف ہے۔ اس موسم گرما میں ہر عمر اور قابلیت کے لوگوں کے لیے بہت سی سرگرمیوں اور سہولیات سے لطف اندوز ہوں۔"

- ہال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca